

ایمان کا پیکانہ

ڈاکٹر انیس احمد

اسلام کے نظامِ عبادت کا بنیادی مقصد بندے اور رب کے تعلق کو مستحکم کرنا اور للہیت پر منی اجتماعیت پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ عبادات بھی جو انفرادی طور پر ادا کی جاسکتی ہیں، ان کی روح بھی اجتماعیت ہی میں ہے۔ حج کو چھوڑتے ہوئے، کیوں کہ وہ تو ہوتا ہی اجتماعی سطح پر ہے نمازِ روزہ اور زکوٰۃ اجتماعیت اور للہیت پیدا کرنے کے عملی ذرائع ہیں۔ رمضان الکریم ہر سال اہل ایمان کو ایک نادر موقع فرماہم کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مستحکم کریں، بلکہ اللہ کے بندوں کو روزہ افطار کر کے، اللہ کے بندوں کو لباس پہنا کر، اور اللہ کے بندوں پر سے کام کی مشقت کم کر کے رب کی قربت حاصل کر لیں۔

رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا ایک مظہر ہے کہ وہ اپنی فیاضی اور کرم سے اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر اپنے لیے کے گئے اس عمل کو قبول فرمائے گناہ گار بندوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات کا بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ کرم بالاے کرم ہی تو ہے جسے ایک حدیث میں رحمت کے اس بادل سے تعبیر کیا گیا ہے جو مومن بندوں پر رمضان میں سایہ گلن ہوتا ہے اور اس مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت کے مثل ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں ایک یونکی عامِ دنوں کے مقابلے میں ستر گناہ بلکہ سیات سو گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔

اس مہینے کا اول عشرہ رحمت، وسط کا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ آگ سے نجات کا سامان کرتا ہے۔ اگر اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ عمدہ لذیذ کھانوں سے نہیں، مھنڈ دودھ کے ایک گلاس یا ایک کھجور سے افطار کر دیا جائے اور پیٹ بھر کھانا کھلا دیا جائے تو رب کریم اپنے بندے کو

حوضِ کوثر سے پانی پلوانے کا وعدہ فرماتا ہے جس کے بعد اس خوش نصیب کو میدانِ حشر میں بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔

یہ مہینہ ایمان کی بہار اور انفرادی اور اجتماعی اصلاح و ترقی کی تربیت گاہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا علم صرف بندے اور ربِ کریم کو ہوتا ہے۔ اس لیے اس کافر مان ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی طور پر ظاہر نہیں ہوتی لیکن روزہ جس طرزِ عمل کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایمان کی کیفیت اور قوت کا اظہار کرتا ہے روزہ دار کی گفتگو ہو یا معاملات میں طرزِ عمل، روزہ کے دوران با آسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول اور اس کی عظمت و فضیلت کا مہینہ ہے۔ لہذا اس ماہ میں قرآن کریم سے خصوصی تعلق قائم کرنے، اس کا حق ادا کرنے، اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی خصوصی کوشش کی جانی چاہیے۔

دنیا کے ہر خطے میں بننے والا مسلمان عموماً دن میں پانچ مرتبہ قرآن کریم کی پُراز حکمت آیات کی تلاوت سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی مختصر سورہ کی شکل میں کرتا ہے لیکن غور و فکر کی عادت سے محرومی کے سبب ان آیات کے انتہائی واضح مفہوم پر غور کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ قرآن کریم کا یادداشت یا کتابِ عزیز کو سامنے رکھ کر پڑھنا بلاشبہ اجر و ثواب کا کام ہے لیکن کیا قرآن کریم خود اپنے بارے میں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ترین ہدایت نامے کے بارے میں کہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے صرف اجر و ثواب کے لیے نازل کیا گیا ہے یا بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پر غور، فکر، تدبر، تعلق، تحقیق اور تفہیم کی دعوت دیتے ہیں۔

ہم اکثر امت مسلمہ کی زبوں حالی پر انہیار افسوس کرتے ہوئے یہ کہتے تو ہیں کہ اس کا سبب قرآن کریم سے دوری ہے۔ لیکن کیا یہ اسی کا سبب جانے کے بعد نہ اور مشکلات کا حل کرنے والی چابی کی طرف متوجہ ہو کر مرض کے علاج اور شفا کے لیے اس اکسیر کا استعمال کرنے کے لیے اپنے وقت میں سے کوئی حصہ نکالتے ہیں؟

ایمان کی کسوٹی

انسانی تاریخ میں آج تک مسائل و مشکلات کا حل نہ خواہشات سے ہوا ہے نہ محض امید

سے۔ عملی اقدامات کے بغیر کسی بھی مسئلے کا حل نہ عقل مان سکتی ہے اور نہ تجربہ۔ اس عظیم کتاب ہدایت کا ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف حکمت و دانائی سے لبریز ہے اور بغیر اس کی فلسفیاتہ تعبیرات کے، صرف خلوص نیت کے ساتھ اس کے معانی پر غور ہمارے مسائل کا بہترین حل فراہم کر سکتا ہے۔

تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے رب کریم نے محض ایک کلمے میں ہمارے طرزِ عمل، معاملات، ذاتی، خاندانی، معاشرتی، معائشی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کے حل کی طرف نشان دہی فرمادی ہے۔ سورہ نساء میں ایک آیت پر اگر غور کیا جائے تو اس میں انسانیت کا پورا منشور قم کر دیا گیا ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكَافِرِ الْمُكْفَرِ نَزَّلَ عَلَى

رَسُولِهِ وَ الْكَافِرِ الْمُكْفَرِ أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلُ وَ مَنْ يَكُفُّ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ

كُفْتُبِهِ وَ دُسْلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَتَ خَلَلٌ خَلَلٌ بَعِينَطٌ (النساء ۱۳۶:۳)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روزِ آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھک کر بہت دُور نکل گیا۔

اہل ایمان کو اے ایمان والوں کہنے کے بعد یہ فرمانا کہ ایمان لاو، ہر صاحب فہم کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک ادبی اسلوب ہے یا ان لوگوں کو جو ایمان لاچکے ہیں دوبارہ ایمان لانے پر متوجہ کرنے کا مفہوم کچھ اور ہے؟ آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ اس ایمان کی وضاحت کرتا ہے جو ہم ہر مسلمان پچے، جوان اور معمور فرد کو زبانی یاد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کردہ اس کتاب، اور ہر اس کتاب پر جو آپ کی شریعت سے پہلے نازل کی گئی، فرشتوں اور آخرت پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اور جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہے جسے ہدایت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کی طرف لانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈال دی گئی ہے۔

اگر غور کیا جائے تو ارشاد ربانی کہ ایمان لاو، کی وضاحت خود کلام عزیز تفصیل کے ساتھ ہر صفحہ کتاب پر کرتا ہے تاکہ ایمان کسی مخفی کیفیت تک محدود تصور نہ کیا جائے، بلکہ ایمان کا واضح

اظہار طرزِ عمل (behaviour) اور قابلِ محسوس روئے میں ہو، اور جسے انسانی نگاہ اور ذہنِ عقلی پیانوں کے ذریعے پیاس کر کے اور ناپ تول کریے طے کر سکے کہ ایمان، ترقی کی جانب رواں دواں ہے یا تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جب کوئی مومن کسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل میں کم سے کم تر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔

گویا جدید علومِ انتظامی میں جس چیز کو کارکردگی کے قابلی پیاس پیانے کے Key Performance Indicators (KPI) کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی KPI بھی پیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایمان ایک طرزِ عمل کی شکل اختیار کر جائے اور ایک منفیٰ کیفیت تک محدود نہ رہے۔

کاملیت و جامعیت

اس پس منظر میں پہلا پیانہ یا KPI دین کو جامع نظامِ حیات مانتا ہے۔ اس صداقت پر یقین کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص زندگی کے کاروبار میں روایتی تقسیم کرتا ہے یا تو حیدر خالص اور اطاعتِ رسولؐ کی بنا پر اپنے ذاتی، گھر بیو، سیاسی، معاشری، ثقافتی، عسکری اور دفاعی، تعلیمی معاملات کو قرآن و سنت کا تابع بناتا ہے۔ اگر اس کا ایمان تو اللہ اور رسولؐ پر ہے لیکن اس کی ذاتی پسند اور ناپسند کا معیار اس کی برادری یا حلقةِ احباب کا کسی کام کو اچھا یا بُر سمجھنا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی برادری یا دوستوں یا اہلی خانہ کا عبد یا بنده بن جاتا ہے اور بعض اوقات اپنی پارٹی (حزب) کو اپنا خدا بنالیتا ہے۔ اگرچہ وہ حکمہ شہادت پڑھ کر اعلان تو یہی کرتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا یا لیکن اس کی آنا، نفس، ذاتی مفاد، اس کے تمام فیصلوں کی بنیاد ہیں تو وہ ایمان لانے کے باوجود ایمان نہیں لا یا۔ خاتم النبیینؐ نے اس عملی صورتِ حال کو، جو ہم میں سے ہر فرد کو دون میں بارہا پیش آتی ہے، اپنے ایک قول بلغہ میں یوں ارشاد فرمادیا:

وَمَا أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَثَ لِلَّهِ وَأَنْطَلَ لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَبِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
(بخاری، عن ابو مامۃ) جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔

گویا ایمان کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا احساس و اظہار طریقہ عمل میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی اصطلاحات ایمان، فتن، نفاق، کفر اور ظلم طریقہ عمل پر منی اصطلاحات ہیں۔ یہ فلسفیانہ پیچیدگیوں سے آزاد واضح اور آسان خطوط پر منی ہیں۔

جو شخص روایتی تقسیم کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بعض معاملات دینی ہیں اور بعض دنیاوی ہیں، وہ دین کی کاملیت اور جامعیت کا عمل انکار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دین محض نماز اور روزے کا اہتمام کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے، جب کہ اس کی پسند و ناپسند کا بیانہ کبھی مغرب، کبھی مشرق، کبھی اپنا نفس، کبھی اس کی جماعت اور پارٹی ہو اور کبھی برادری اور معاشرے کا خوف ہو۔ یہ وہ پہلا بیان ہے جو ہمیں آئینے میں اپنا صحیح چہرہ دکھان سکتا ہے کہ ہم کس حد تک صاحب ایمان ہونے کے باوجود حامل ایمان ہیں اور ہمارا عمل کس بات کی شہادت دے رہا ہے۔

اس تمام تفصیل کو کلام عزیز نے محض ایک آیت مبارکہ میں یوں بیان فرمادیا:

يَا أَيُّهَا الْمُتَّنِعُونَ إِذْنُوا أَتَّلُوا فِي الدِّرْجَاتِ وَلَا تَسْتَعْنُوا بِخُلُولِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ (البقرہ ۲۰۸:۲)

پورے کے پورے اسلام میں آجائے اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمھارا کھلادشمن ہے۔

مزید وضاحت کرتے ہوئے اس مرکزی مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الْمُتَّنِعُونَ إِذْنُوا لَا تَسْتَدِعُوا أَبَاءَكُمْ وَإِذْنُوا نَكِنْمَ أَوْلَيَاءَ إِلَّا أَسْتَبَبُوا

الْكُفُرُ عَلَى الْأَبْيَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (التوبہ ۲۳:۹)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بالپوں اور بھائیوں کو بھی اپنارفیق نہ بناؤ اگر وہ

ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جوان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔

صدقافت

دوسرا ہم پیا کہ کسی فرد کا ایمان لانے کے بعد صداقت، سچائی اور بھلانی اور خیر کا بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی زندگی کے معاملات میں راجح کرنا ہے۔ یہ صداقت اور سچائی محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص جب بات کرتا ہے تو وہ سیدھی، سچی اور کھری ہو، یا اس میں کوئی لگاؤٹ، اختیاریاً ذمہ ایغاثت کا استعمال یا کسی حیلہ کا استعمال کیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جب

بات کی جائے تو خیرخواہی کی ہو۔ اس میں اپنے بھائی کو چکر دینے اور اپنے فائدے کے لیے اسے صرف اتنی بات بتانا جس سے خود اپنا فائدہ اٹھایا جاسکے یا پورے حقائق، اور پورے حق کا اظہار نہ کرنا بھی شامل ہے۔

قرآن کریم اس رویے اور طرزِ عمل کو قولاً سبیعَ لَسے تعبیر کرتا ہے۔ قول حق و صداقت کا تعلق محض ایک سیدھی بات کہہ دینے سے نہیں ہے بلکہ حق کو پہچانا اور باطل، ظلم، طاغوت کے ساتھ فرق کو سمجھنا، مدعاہت سے بچنا اور اپنے ذاتی فائدے سے بلند ہو کر حق کا ساتھ دینا ہے۔ اسی پہلو کو قرآن عظیم نے یوں واضح فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَنَا أَنْتُمَا اللَّهَ وَ مَكْوُنُوا مَعَ الصَّدِيقِ (البیتوبہ: ۹)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔

سچے اور صداقت ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ باطل اور ناحق کو ہاتھ اور زبان سے دُور کرنا اور حق و صداقت کو بغیر کسی ملاوٹ کے مشکل ترین حالات میں حکمت دین کے ساتھ واضح کرنا دین کا مطالبہ ہے۔ یہ وہ بنیادی صفت ہے جس کے بغیر کاربنتوت مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی نزولِ وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن صاحبِ قرآن کے طرزِ عمل اور رویے نے اہل مکہ کو آپؐ کی صداقت اور سچائی اور امانت کے بر ملا اقرار پر مجبور کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپؐ کو سچا اور صادق ماننے کے باوجود اپنے عملی تضاد کی بنا پر آپؐ کے لائے ہوئے حق اور صداقت کو ماننے پر آمادہ نہ ہوئے۔

ایکیسویں صدی کے تناظر میں بھی صورتِ حال کچھ مختلف نظر نہیں آتی۔ مغرب ہو یا مشرق، انسان کے خود ساختہ نظام انسانیت کو فلاح، سعادت اور سکون دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق تک قول حق اور قول سدید کو پہنچانے کی ضرورت شدید سے شدید تر ہو چکی ہے۔ اب یہ تحریکاتِ اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوتِ حق کو بغیر کسی مدعاہت اور قول حق کو بغیر کسی مفاہمت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ حکمتِ دعوت کے ساتھ تمام موجود وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرے۔ اور یہ کام کرتے ہوئے ایمان کے ایک اور مطلبے، یعنی ربِ کریم کی حمد، شکر اور ذکر کوزیاہ سے زیادہ اختیار کرے۔

للہیت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانا ہی کامیابی کا پیش خیمه بن سکتا ہے۔

محض اپنی عدوی طاقت پر بھروسہ، عوامی مقبولیت اور عوامی نعروں پر اعتماد ایک ناپایار تصور ہے۔ دعوت دین اپنا الگ مزان رکھتی ہے۔ یہاں اُترتیت یافتہ، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے کارکن اپنے سے ۱۰ گنازیاہ باطل کی قوت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی استعانت سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”(اے نبیؐ) مومنوں کو جنگ پر اُبھارو۔ اگر تم میں سے ۲۰ آدمی صابر ہوں تو وہ ۲۰۰ پر غالب آئیں گے“ (انفال: ۸: ۶۵)۔ قرآنی تصویر قوت ایک نرالا تصور ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہلے ۲۰ لاکھ لوگ جمع کرو، تب تم street power بن کر انقلاب لاوے گے، بلکہ وہ واضح طور پر کم تعداد میں وہ قوت مجمع کر دیتا ہے جو بڑے بڑے طوفانوں اور کفر کے سیالب کو اپنی قوت ایمانی سے اگیز کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کفر و ظلم کی کشیر طاقت پر کامیابی حاصل کر سکے۔ بدرا کا معمر کہ ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے تحریکاتِ اسلامی کے لیے لمحہ فکر یہ فراہم کرتا ہے۔

یہاں مطالبہ ترکیہ نفس کا، قرآن سے تعلق کا، سیرت پاک کے رنگ میں رنگ جانے کا ہے۔

یہاں صہرا و استقامت پر اُبھارا جا رہا ہے۔ **طابور** سے مراد وہ مجاهد فی سبیل اللہ ہیں جو ہر میدان میں ایمانی بصیرت کے ساتھ مہارت رکھتے ہوں۔ وہ میدان میعشت کا ہو، تعلیم کا ہو، سیاست کا ہو یا فکر کا ہو یا عسکری جہاد، یہ **طابور** ان تمام شعبوں میں قیادت کی صلاحیت کے ساتھ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے جب اس کی راہ میں نکلتے ہیں تو پھر راستے کی رکاوٹیں خس و خاشاک کی طرح معدوم ہو جاتی ہیں۔ اہل ایمان کے ایمان کو نانپے کا ایک پیمانہ اللہ کی یاد، ذکر اور تذکرہ ہے جو قلت تعداد کے باوجود باطل قوتوں کی کثرت کو لرزہ برانداز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے:

يَأَيُّهَا الْمُلِئَةُ إِذْ أَنْتُمْ أَمْكُنُوا مَا لَمْ كُنُوا اللَّهُ يَنْهَا مَنْهَا مُحَمَّدٌ أَمْكُنَهُ مَمْكُنَةً وَ أَمْسِلَةً ۝

(احزاب: ۳۳: ۲۱-۲۲) اے ایمان لانے والو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام

اس کی تسبیح کرتے رہو۔

اللہ کا ذکر اپنی مکمل شکل میں نماز میں پایا جاتا ہے۔ **وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَكَلَّا** (الاعلیٰ ۸۷: ۱۵) ”اور اپنے رب کا نام یاد کیا بچہ نماز پڑھی“، لیکن یہ ذکر اور یاد دہانی محض صلوٰۃ فجر اور عشاء تک محدود نہیں۔ ایک مومن کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر عمل بندگی رب میں کیا جا رہا ہو تو اس کا ہر عمل

عبادت اور ذکر شمار کیا جاتا ہے اور احمد رحمانی مزید فضل فرماتے ہوئے اپنے بندے کی خامیوں اور کمزوریوں کو قوتیں اور حسنات سے بدلتے ہے۔

تزریقیہ نفس

ایمان کی کیفیت کا تیرا بیان یا KPI ایک فرد کا مسلسل تزریقیہ میں مصروف رہنا ہے۔ تزریقیہ ایام بیض کے روزوں یا قیام لیل تک محدود نہیں ہے۔ اس کا پہلا میدان گھر اور خاندان ہے کہ ایک فرد کہاں تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کر رہا ہے جو محبت، ہمدردی اور صحت کا ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے جو روزی کمار رہا ہے، وہ حلال ذرائع سے حاصل کی جا رہی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں پر جو خرچ کر رہا ہے، اس میں کہاں تک اعتدال ہے، وہ اسراف سے کتنا محفوظ ہے۔ وہ اپنے والدین اپنے اقربا اور اپنے احباب کے حقوق کس حد تک ادا کر رہا ہے۔ یہ تمام اعمال ایمان کے پیمانے ہیں۔ ایک حدیث صدر حجی کے حوالے سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنے اقربا کی طرف سے ناشکر گزاری کے باوجود ان کے ساتھ بھلانی کرتا ہے تو وہ آخرت میں کامیاب ہو گا۔ فرد کا تزریقیہ اس کے مال کا بھی ہے، صلاحیت کا بھی، وقت کا بھی اور سفن اور نوافل کے اہتمام کا بھی۔ تزریقیہ بھلانی اور خیر کے مسلسل بڑھنے کے عمل کا نام ہے۔ یہ ایک جامع ذاتی ترقی کے عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں شخصیت و کردار میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔

جادۂ عدل

چوتھا پیمانہ جو یہ طے کرتا ہے کہ ایک فرد کا طرز عمل ایمان کا پتا دیتا یا تقوی سے ڈوری کی نشان دہی کرتا ہے، جادۂ عدل کو اختیار کرنا ہے۔ عدل قرآن کریم کی بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اہم تعلیم اور اصول ہے۔ اس کا ایک واضح مفہوم وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک بخوبی جانتا ہے، یعنی کسی تعصب، لاؤ پیٹ، ذاتی پسند ناپسند، نفرت یا محبت، قبائلی نسبت، خونی اور خاندانی تعلق، نظریاتی اتحاد، غرض ہر تعلق سے آزاد ہو کر اللہ کی خاطر، سچائی اور حق کی گواہی دیتے ہوئے ایک مشرک کے ساتھ بھی عدل کا روئیہ اختیار کرنا۔ اسی کا نام تقوی اور اسی کا نام توحید ہے۔ عدل کا مطالبہ ہے کہ تمام مراسم عبودیت، اطاعت، فرمان برداری، محبت صرف اللہ کے

لیے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اس میں کسی کو شریک کر لیا گیا تو اسی کا نام ظلم عظیم، یعنی شرک ہے۔ بالکل اسی طرح کسی گروہ کی دشمنی یادوتی سے بلند ہو کر شہادت حق دینے ہوئے وہ فیصلہ کرنا جو عدل کا مطالبہ ہو تقویٰ ہے۔ گویا عادلانہ رویہ وہ پیانہ یا KPI ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ ایک شخص ایمان اور تقویٰ سے کتنا قریب ہے۔ یہاں بھی ایمان کسی مخفی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک واضح طرزِ عمل اور قابلِ محسوس رویہ ہے جیسے ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا ذہن بغیر کسی الجھاؤ کے محسوس کر سکتا ہے۔ ایمان کے اس پہلو کو کتاب حکمت و رشد و ہدایت یوں بیان کرتی ہے:

يَا يَهُوَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْعَلُوا كُفُونَا كُوْنُوا قَوْنَيْرَ لِلَّهِ شُجَّهَاءَ بِالْقُسْطِيْلِ يَبْرِسْكُمْ شَنَاءً
قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَّا تَعْمَلُوا طَاعِنَلُوا قَاقَةَ جَهَهَ أَقْرَبَ لِلنَّقْوَلَادَ وَأَنْقَوْنَا اللَّهَ طَ
إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْرَ ۝ (المائدہ: ۵: ۸) اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

یہاں تحریکی کارکنوں کے لیے اہم دعویٰ پہلو واضح کیا گیا ہے کہ کسی گروہ کی دشمنی یا مخالفت مستقل نہیں ہو سکتی۔ اپنی تمام خامیوں کے باوجود ہر مشرک، فاسق اور ظالم ایک ممکنہ مومن ہے۔ فرعون کی فرعونیت کے باوجود اسے نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ سے فرمایا گیا کہ تم دونوں جاؤ اور اسے نرم اور دل نشین انداز میں دعوتِ حق دوشاید وہ بھلائی کی طرف آمادہ ہو جائے۔ گویا سیاسی مخالفین ہوں یا نظریاتی دشمن، ان تک دعوت کا پہنچانا ہر تحریکی کارکن کا ہدف ہونا چاہیے۔

نظم و اطاعت

ایمان کے وجود اور تقویٰ ایمانی کا ایک پیانہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے اطاعت کا وہ رشتہ ہے جس میں ایک مرتبہ مسلک ہونے کے بعد ایک صاحب ایمان تمام غلامیوں اور ہر قسم کے خوف وہ راس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طبق اطاعت ہے جو ایک شخص کو تمام غلامیوں سے آزاد

کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کے احکام چاہے وہ مشکل نظر آئیں یا آسان، دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے طاغوت، اپنے زمانے کے معاشری طاغوت، سیاسی طاغوت، ثقافتی طاغوت اور سیاسی برتری اور قوت کے طاغوت سے آزاد ہو کر اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنے تمام معاملات کو، اپنے تمام مفادات کو صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع بناتے ہوئے سر تسلیم ختم کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرماں روا اور اولی الامر جن سے اس کا روز واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ اللہ اور رسول ﷺ کے نظام پر عمل نہ کر رہے ہوں تو وہ ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا رُخ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیتا ہے۔

یہ ایمان کا وہ بیانہ ہے جو روز روشن ہو یا شام کی دھنڈ لاہٹ، ہر صورت حال میں ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ایک فرد کہاں تک اللہ کا عبد ہے اور کہاں تک مصلحت وقت کا۔ یہ ایمان کو بے حجاب کر دیتا ہے۔ ایمان اپنی ماہیت کے لحاظ سے چھپنے اور دبنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا جو ش اور ولہ اسے ہر سطح پر واضح طور پر نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ ایک قابل محسوس، قابل پیالش رو یہ اور طرزِ عمل کا نام ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے **ذَبِّ وَ اخْسَرْ تَأْوِيلًا** سے تعبیر کیا ہے:

**يَا يَهَا الْأَنْيَرَ أَمْنُوا أَطْلِيعُوا اللَّهَ وَ أَطْلِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولُو الْأَمْرِ مُنْكَرٌ
فَإِنْ تَنَزَّلْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُكْثُوْهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْرَ بِاللَّهِ
وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ طَالِكَهُ ذَبِّ وَ اخْسَرْ تَأْوِيلًا** (۵۹:۳) (النساء ۵۹:۳) اے لوگو جو

ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول ﷺ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمھارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول ﷺ کی طرف پھر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریق کارہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔

اس آیت مبارکہ نے اللہ اور آخرت پر ایمان کو جس طرزِ عمل اور رویے سے مسلک کر دیا ہے وہ ہر لحاظ سے قابل محسوس ہے۔ تین بیانے ہمیں بتادیے گئے ہیں یہ جانچنے کے لیے کہ ایمان کی سطح کیا ہے:

اول: ایک کارکن یا ذمہ دار فرد کہاں تک فیصلے کرنے میں اور فیصلوں پر عمل کرنے میں

بنیادی طور پر یہ دیکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کسی اتحاد میں شامل ہونا ہو یا کسی عوامی ریلی میں شرکت، اس میں بنیاد رضاۓ الہی اور اطاعت رسول ہے یا کوئی قریب المیعاد سیاسی مفاد۔ اپنی شہرت و مقبولیت ہے یا ہر مفاد سے بلند ہو کر صرف اور صرف رضاۓ الہی۔ اور جب ایک فیصلہ اللہ اور رسول کے حکم کی بنیاد پر کر لیا گیا تو پھر اس فیصلے پر کس شدت سے عمل کیا جا رہا ہے۔

دوم: اولی الامر اور نظم کی اطاعت کرتے وقت کہاں تک نظم کی رضا مقصود ہے اور کہاں تک صرف اور صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بنیاد ہے۔ جب اولی الامر کے حکم اور اللہ اور رسول کے حکم میں انتخاب ہو تو پھر ایمان کا تقاضا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ اور آخرت پر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔

سوم: اگر کسی مسئلے میں تنازع کھڑا ہو جائے تو ایسے آزمائشی موقع پر حق پر قائم رہنا، موقع پرستی اور مذاہنست کو پس بشت ڈالتے ہوئے قولِ سدید اور شہادت حق دینا ایمان کا وہ پیمانہ ہے جسے امت مسلمہ کی تاریخ کے ہر دور میں دیکھا جاستا ہے۔

ثابت قدمی

ایمان کو جانچنے کا ایک پیمانہ وہ رویہ اور طرزِ عمل ہے جو افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ سیسیسے پلانی ہوئی دیوار کی طرح رشتہ اخوت میں جوڑ دے اور وہ محض ایک جماعت کے کاغذی مجرم نہ رہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا اور قوت بن جائیں۔ وہ ایک دوسرے کی خوشی اور تکلیف میں برابر کے شریک ہوں۔ اگر تحریک کے ایک حصے میں جو سیکھوں ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، کوئی آزمائش ہو تو وہ اس میں خاموش تباشائی نہ ہوں بلکہ ان کا دل و دماغ اور جسم اس تعلق کی وجہ سے بے چین ہو۔ وہ نہ صرف مظاہروں کے ذریعے بلکہ میں الاقوامی دباؤ اور ابلاغ عامہ کے ذریعے استعمال کریں اور رب کریم کے حضور شب و روز دعاؤں کا ایسا سلسہ شروع کریں کہ اس کی رحمت جوش میں آجائے اور وہ تحریک اسلامی کی آزمائش کو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنادے۔

فلاح، کامیابی اور کامرانی کو قرآن کریم نے اس اخوت کی قوت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ یہ ایمان کا وہ پیمانہ ہے جس پر ہر تحریکی کارکن اور قائد اپنی جانچ خود کر سکتا ہے۔ فرمایا گیا:

يَأَيُّهَا الْمُنَيْمِ إِنَّمَا أَنْتُمْ نَاجِيُّكُمْ وَكَانُوكُمْ مَأْجُونُكُمْ إِنَّمَا تَنْهَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِوَةٌ ۵ (آل عمرن: ۳۰۰) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پادے گے۔

ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے: ^۷ ایمان نام ہی صبر و ساحت کا ہے۔ حضرت عمر و بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان نام ہے صبر اور ساحت کا (مسلم)۔ گویا راہ کٹھن ہو یا آرام دہ، عزم، جدوجہد اور جہد مسلسل پوری استقامت کے ساتھ جاری رہے۔ اور اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے کبھی اپنی ذات، اپنی قوت، اپنی حکمت عملی، اپنی سیاسی مقبولیت اور ذہانت، غرض ہر اس طرزِ عمل سے بجا جائے جو عالمی ظرفی کے منافی ہو اور ہر وہ بات اختیار کی جائے جس سے خاکساری اور نرم خوئی میں اضافہ ہو۔

جب ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر تحریک کی دعوت کو قبول کر لیا ہو تو پھر اپنی آنا، ذاتی رخش، اختلاف راے اور نظر انداز کیے جانے کے باوجود تحریک سے واپسی، اپنی ذاتی راے کو اجتماعی راے کا تابع بنانا اور جماعت سے واپسی اور دین کی دعوت کے لیے ہر سرگرمی میں جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لینا، کسی لمحے بھی مایوس اور شاکی نہ ہونا ثابت قدیم و استقامت کا تقاضا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندے کو ایسی اجتماعیت سے وابستہ ہونے کی توفیق دے جو معروف کے قیام اور منکر کے مثانے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ یہ تو شکر کے رویے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس میں شکا بہت، برہمنی، مایوسی اور پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔

جہاد فی سبیل اللہ

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو شعوری طور پر تسلیم کرنے کے ساتھ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے قیام کی جدوجہد میں مکمل طور پر لگا دیا جائے۔

یہ جدوجہد جزوی نہیں ہے کہ دُنیا، کے بہت سے کاموں کے ساتھ، چاہے وہ ذاتی معاش کے لیے ہوں یا اپنے شعبے میں مہارت حاصل کر کے شہرت کے لیے ہوں، یا اپنے اہل خانہ کو خوش کرنے کے لیے وسائل پیدا کرنے کے لیے ہوں۔ غرض ہر وہ کام جسے عام طور پر دنیاوی کہا جاتا ہے،

اس میں اپنی تمام تغیری صلاحیت اور قوت کو صرف کرنے کے بعد ہفتہ کے آخر میں دونوں جب 'دنیاوی کاموں' سے فرصت حاصل ہو تو اس وقت کو دعویٰ کام میں لگا دیا جائے اور سمجھا جائے کہ اقامتِ دین کا فریضہ ادا کر دیا۔ درحقیقتِ دن رات کے ہر لمحے میں حضرت نوحؐ کے عزم اور جذبے کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ وہ انقلابی عمل ہے جس میں ایک فرد کا رویہ اور طرزِ عمل، قرآن و سنت سے مطابقت پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنی دوستی کا معیار دعوتِ حق کو بناتا ہے۔ ان سے بڑتا ہے جو حق کی طرف راغب ہوں، ان سے مقاطع ہوتا ہے، جو بے مقصد زندگی میں گم ہوں۔ ہاں، انھیں اس سراب سے نکالنے کے لیے لازماً کوشش رہتا ہے۔ اس کی محبت اور دوستی کا بیانہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں سے قربت، اور نمائش اور چمک دمک کی طرف لپکنے والوں سے فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے رب سے اچھی امید اور اپنی کوتا ہوں پر مغفرت کا طلب گارہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کے فضل کو اس کی مغفرت میں ملاش کرتا ہے:

يَا يَهُا إِلَّا مُنْيَوْا أَمْنُوا إِنْ تَقْتُلُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ

سَيِّاتُكُمْ وَ يَغْفِلُكُمْ طَ وَ اللَّهُ مُنَوِّلُ الْفُلُجِ (انفال: ۲۹: ۸) اے لوگو

جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی [بھلائی] اور بُرائی میں تغیر کی صلاحیت۔ بھم پہنچا دے گا اور تمہاری بُرائیوں کو تم سے دُور کر دے گا اور تمہارے قصورِ معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

قرآنِ کریم نے اس طرزِ عمل کو دوسرے مقام پر ایک ایسی تجارت سے تعبیر کیا ہے جس میں صرف کرنے والے کے لیے نفع ہی نفع اور خسارے اور عذاب سے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہاں بھی ایمان کی کسوٹی اور پیانہ ایک قابل محسوس طرزِ عمل اور رویہ ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت انسانوں کے لیے بھیجی ہے، اسے اللہ کی زمین پر نافذ کرنے اور نظامِ عدل اور حق و صداقت کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں، اثاثے اور دولت کو لگا دینا، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے کسی مددگرت سے کام نہ لینا، اور قولِ سید کے لیے اپنا تن من وھن اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اس سے زیادہ قابل اعتبار سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سایے کے مانند پائی جانے والی دنیا میں، زندگی کے لمحات کو اللہ کے راستے میں لگانے کے بد لے ہمیشہ رہنے والی زندگی

میں نجات اور عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ سودا نہیں، یہ تورب کریم کی ایک عظیم بخشش ہے، ایک انعام ہے جو مالک کائنات ہی دے سکتا ہے۔ لکنے خوش نصیب ہیں وہ راہ رو جو اس را مقتضیم پر رواں دواں ہوں جن کی آبلہ پائی انھیں یوم حساب کی شرمندگی سے محفوظ کر دے، اور وہ ان میں شامل ہو جائیں جن سے ہلاک حساب لیا جائے گا:

**يَا أَيُّهَا الْأَعْبَادُ إِذَا مَنَّا هُنَّا هُنَّا لَكُمْ عَلَىٰ تَبَارِةٍ تُتَبَدِّلُكُمْ فَمَنْ عَنَّا بِإِلَيْنَا
تُؤْمِنُوْرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُبَاهُوْرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ طَ
حَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِذَا مَكْنُتُمْ تَغْلَمُونَ (الصف ۶۱: ۱۰-۱۱) اے لوگو، جو ایمان
لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تھیں عذاب الیم سے بچا دے؟ ایمان لا و اللہ
اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔
یہی تمہارے لیے ہتھرے اگر تم جانو۔**

اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اس با بر کست سرگرمی میں اپنی جان، اپنا مال اپنا وقت اپنی
صلاحیت کو لگا دینا وہ تجارت ہے جس میں نقصان آس پاس بھی نہیں آ سکتا۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ
ہے۔ یہ نہ صرف عذاب الیم سے بچانے کا ذریعہ ہے بلکہ وہ مؤمن جو خلوص نیت کے ساتھ شہادت حق
کا فریضہ ادا کرتا ہے، رب کریم اسے ان جنتوں سے نوازتا ہے جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں اور
جہاں اس بندہ مؤمن کے لیے ہر ممکن آسانیش اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایمان و عمل کا رشته انتہائی
قریبی ہے۔ اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، خاندان اور محلے کے
دعویٰ حقوق ادا کرنے ہوں گے اور اجتماعیت کو اختیار کرنا ہوگا۔ حقیقی کامیابی کا راز اجتماعیت ہی میں
ہے۔ اجتماعی جدوجہد اور اللہ کی راہ میں جہاد دین حق کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا۔ ایسی
سعادت ہے جو خوش نصیبوں ہی کو ملتی ہے۔ قبل مبارک باد ہیں اللہ کے وہ انصار جو با دخال ف کی
پرواکیے بغیر اپنا تمام اثاثہ اس جدوجہد میں لگاتے ہیں، جن کی نماز اور جن کا ہبنا اور مرنا صرف
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔

(کتابچہ دستیاب ہے، منشورات، منصورہ، لاہور۔ قیمت: ۱۳ روپے، میکٹرے پر خصوصی رعایت)